

10 Write short answers to any FIVE parts.

- (i) اگر ایک کی رقم 71000 روپے ہو اور فرسٹ کوریٹ 3% فیصد ہو تو فرسڈ کی رقم کتنی ہوگی؟
If the amount of asset is Rs. 71000 and rate of depreciation is 3%. What will the amount of depreciation?
(ii) سب کیونک کیا ہے؟
What is book keeping?
(iii) ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور کمیشن ڈسکاؤنٹ میں کیا فرق ہے؟
What is the difference between trade discount and cash discount?
(iv) اکریٹ نظام کی تعریف کیجیے۔
Define single entry system.
(v) کیش بک اور ٹیلی رتی کیش بک میں فرق کی وضاحت کیجیے۔
Explain the difference between cashbook and petty cashbook.
(vi) کیش بک اور پاس بک میں فرق کی دو وجوہات بیان کیجیے۔
Describe two causes of differences of cashbook and passbook.
(vii) مخصوص روزنامہ کی تعریف کیجیے۔
Define special journal.
(viii) معطل کھاتہ کی تعریف کیجیے۔
Describe inactive account.

10 Write short answers to any FIVE parts.

- (i) رعایتی ایام کی تعریف کیجیے۔
Define grace days.
(ii) بل کی تجدید سے کیا مراد ہے؟
What is renewal of a bill?
(iii) جاری شدہ چیک کب مسترد ہوتا ہے؟
When cheque issued is dishonoured?
(iv) تاوانی مالیاتی اخراجات کی وضاحت کیجیے۔
Explain deferred revenue expenditure.
(v) سرمایہ وصولیوں کی تعریف کیجیے۔
Define capital receipts.
(vi) آپ بیلنس شیٹ سے کیا مراد لیتے ہیں؟
What do you mean by balance sheet?
(vii) مالک سرمایہ پر سود کیوں لگا تا ہے؟
Why owner charge interest on capital?
(viii) مجموعہ کرنے کی غلطیوں سے متعلق لکھیے۔
Write casting errors.

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 20 نمبر ہیں۔
Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 20 marks.

- 4۔ مندرجہ ذیل کاروباری معاملات کو XYZ Traders کی حسانی کتب میں درج کیجیے:
Journalize the following transactions in the books of XYZ Traders:
(i) 01-July-2023 مبلغ 80000 روپے نقد رقم اور مبلغ 60000 روپے فرنیچر کے ذریعے کاروبار شروع کیا۔
01-July-2023 Started business with cash Rs. 80000 and furniture Rs. 60000
(ii) 02-July Goods purchased from Mr. Adil Rs. 40000 روپے کی اشیاء تجارت خریدیں۔
02-July Goods purchased from Mr. Adil Rs. 40000
(iii) 04-July Goods sold for cash Rs. 30000 مبلغ 30000 روپے میں اشیاء تجارت فروخت کی گئیں۔
04-July Goods sold for cash Rs. 30000
(iv) 08-July مبلغ 20000 روپے بینک کھاتہ میں جمع کروائے گئے۔
08-July Cash was deposited into bank account Rs. 20000
(v) 10-July مبلغ 39000 روپے عادل کو ادا کر دیے گئے اور مبلغ 1000 روپے رعایت کے طور پر معاف ہو گئے۔
10-July Cash was paid to Mr. Adil Rs. 39000 and discount received Rs. 1000
(vi) 14-July مبلغ 15000 روپے مالک نے کاروبار سے ذاتی استعمال کی خاطر نکلوائے۔
14-July Cash Rs. 15000 was withdrawn by proprietor for private use.
(vii) 16-July مبلغ 5000 روپے کی اشیاء تجارت فری نمونوں کے طور پر تقسیم کر دی گئیں۔
16-July Goods worth Rs. 5000 were distributed as free samples.
(viii) 20-July مبلغ 30000 روپے میں مشین خریدی گئی۔
20-July Machinery was purchased for cash Rs. 30000
(ix) 22-July مبلغ 10000 روپے کمیشن کے طور پر وصول کئے گئے۔
22-July Commission was received Rs. 10000
(x) 30-July مبلغ 25000 روپے ملازمین کی تنخواہوں کے طور پر ادا کر دیے گئے۔
30-July Staff salaries were paid Rs. 25000

5۔ ذیل ٹریڈرز کا 30 اپریل 2021ء کا گنوارہ تطبیق بنک تیار کیجیے:
Prepare bank reconciliation statement of Zeemal Traders as on 30th April 2021:

- (i) کمیشن بینک کے مطابق بیلنس پندرہ ہزار روپے ہے۔
Balance as per cashbook Rs. 15000
(ii) آٹھ ہزار روپے کے چیک پیش نہیں ہوئے۔
Unpresented cheques Rs. 8000
(iii) ایک ہزار روپے کا سود بینک نے کریڈٹ کر دیا۔
Interest credited by bank Rs. 1000
(iv) دو ہزار روپے ڈیویڈنڈ بینک نے کریڈٹ کر دیا۔
Dividend Rs. 2000 credited by bank.
(v) چھ سو روپے بینک چارجز ہیں۔
Bank charges Rs. 600
(vi) چیک ہزار روپے کا بینک میں جمع کروایا لیکن ابھی تک کریڈٹ نہیں ہوا۔
Cheque deposited into bank Rs. 5000 but not credited.

(جاری ہے)

6۔ وجوہات سے بیان کیجیے کہ درج ذیل اخراجات سرمایہ یا مالیت:

State with reasons whether the following items are capital or revenue:

Wages paid for installation of plant and machinery.

Attorney fee for registration of patent rights.

White wash of office building.

Interest on loan.

Rent of building.

Advertisement for sales promotion.

Legal expenses incurred on an income tax appeal.

Cost of re-decorating a cinema hall.

Freight paid on goods.

Paid to creditors for goods purchased on account.

Rectify the following errors:

(i) پلانٹ اور مشینری کی تنصیب پر مزدوری خرچ۔

(ii) پٹنٹس رجسٹریشن پر وکیل کی فیس کا خرچ۔

(iii) دفتری عمارت کی سفیدی پر خرچ۔

(iv) قرض پر سود خرچ۔

(v) عمارت کا کرایہ خرچ۔

(vi) فروخت میں اضافہ کے لئے تشریری خرچ۔

(vii) انکم ٹیکس کی اپیل پر قانونی اخراجات۔

(viii) ایک سینما ہال کی دوبارہ ہخاؤٹ کی لاگت۔

(ix) اشیاء پر بار برداری کی ادائیگی۔

(x) لیکن داروں کو ادھار پر خرید کردہ اشیاء کے بدلے میں ادائیگی کی۔

7۔ درج ذیل غلطیوں کی درستی کیجیے:

(i) 1140 روپے کی فروخت نور ایڈ برادرز کی بجائے نور الہی کو ڈیبٹ کر دی گئی۔

A sales of Rs. 1140, debited to Noor Elahi instead of Noor & Bros.

Rs. 400 paid for repairs posted as Rs. 40

(ii) 400 روپے مرمت کے لئے ادا کئے۔ پوسٹنگ 40 روپے سے ہو گئی۔

Purchase book has been under casted Rs. 1800

(iii) روزنامہ خرید میں 1800 روپے کم جمع کئے گئے۔

Sales return book has been overcasted by Rs. 1200

(iv) روزنامہ فروخت واپسی 1200 روپے سے زائد میزبان کیا گیا۔

A cheque for Rs. 1490 received from Zubair was credited to the account of Asif.

(v) 1490 روپے کا ایک چیک زبیر سے وصول کیا آصف کے کھاتے کو کرڈٹ کر دیا گیا۔

Purchase of plant for Rs. 18000 cash were wrongly recorded as purchases.

(vi) 18000 روپے کا پلانٹ خرید اور اس کو غلطی سے کھاتہ خرید میں درج کر دیا گیا۔

Purchases return of Rs. 600 to Kabeer has been omitted to record.

(vii) کبیر کو 600 روپے کی خرید شدہ اشیاء واپس لیں جو درج کرنا بھول گئے۔

An item of sale for Rs. 43 was posted as Rs. 143 in the sales account.

(viii) 43 روپے کی اشیاء فروخت کیں جس کو 143 روپے سے فروخت کھاتے کو پوسٹ کر دیا۔

Commission earned, credited to interest Rs. 250

(ix) 250 روپے کمیشن کمایا سود میں کرڈٹ کر دیا گیا۔

Rs. 570 paid for salaries but wrongly debited to drawings account.

(x) 570 روپے تنخواہیں ادا کیں مگر غلطی سے برداشت کے کھاتے کو ڈیبٹ کر دیا۔

8۔ حمزہ نے خالد کو مبلغ 10 ہزار روپے کی اشیاء فروخت کیں اور خالد پر 3 ماہ کی ہنڈی مرتب کی۔ خالد نے ہنڈی قبول کر کے حمزہ کو واپس کر دی۔ مقرر تاریخ پر

ہنڈی کی ادائیگی نہ ہوئی۔ مندرجہ ذیل حالات میں حمزہ کی کتابوں میں جرنل انٹریاں درج کیجیے:

Hamza sells goods to Khalid for Rs. 10000 and draws a bill for 3 months. Khalid accepts the bill and returns it to Hamza. The bill is dishonoured on the due date. Give journal entries in the books of Hamza under the following circumstances:

If the bill is kept by Hamza with himself till due date.

(i) اگر مقرر تاریخ تک حمزہ ہنڈی اپنے پاس رکھتا ہے۔

If the bill is endorsed to Ali his creditor.

(ii) اگر حمزہ ہنڈی اپنے قرض خواہ علی کو منتقل کر دیتا ہے۔

If the bill is sent to the bank for collection.

(iii) جب حمزہ ہنڈی بینک کو وصولی کے لئے بھیج دیتا ہے۔

If the bill is discounted with the bank at 6% per annum.

(iv) جب حمزہ 6 فیصد سالانہ کے حساب سے ہنڈی پر فروغ لگواتا ہے۔

Prepare trading, profit and loss account and balance sheet:

9۔ تجارتی نفع اور نقصان کا کھاتہ اور توازن چھہ تیار کیجیے:

Debit	تفصیلات	Credit	تفصیلات
Rs. 10000	Cash نقدی	Rs. 15000	Creditors قرض خواہ
Rs. 5000	Debtors مقروض	Rs. 28000	Capital سرمایہ
Rs. 20000	Furniture فرنیچر	Rs. 50000	Sales فروخت
Rs. 30000	Purchases خرید	Rs. 6000	Interest سود
Rs. 20000	Opening Stock ابتدائی ذخیرہ		
Rs. 10000	Wages اجرتیں		
Rs. 4000	Rent کرایہ		
Rs. 99000	TOTAL میزبان	Rs. 99000	TOTAL میزبان

تصحیحات: (i) اختتامی ذخیرہ مبلغ 20000 روپے (ii) پیشگاہ شدہ اجرتیں مبلغ 1000 روپے (iii) فرنیچر پر فروغ سودگی 10 فیصد سالانہ

(iv) واجب الادا کرایہ مبلغ 2000 روپے

Adjustments: (i) Closing stock Rs. 20000 (ii) Wages prepaid Rs. 1000

(iii) Depreciation on furniture @ 10% p.a. (iv) Outstanding rent Rs. 2000